

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن تمام عمر کے انٹرپرائیونرز کو سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر کمپنی پروگرامز کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے

برامپٹن، آن (11 فروری 2021) – سٹی آف برامپٹن اب تربیت اور فنڈنگ کے دو مواقع کے لیے انٹرپرائیونرز کی درخواستیں قبول کر رہا ہے: سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام اور سمر کمپنی پروگرام۔

برامپٹن کے چھوٹے کاروباروں کے لیے تیز تبدیلی کے اس وقت میں، سٹی آف برامپٹن انٹرپرائیونرز کی مدد کے لیے وسائل فراہم کرنا جاری ہے۔ یہ دو پروگرام انٹرپرائیونرز کو اپنے کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے میں مدد دینے کے لیے برامپٹن انٹرپرائیونر سنٹر (BEC) کے ذریعے پیشکش کیے جاتے ہیں۔ یہ اونٹاریو منسٹری آف اکنامک ڈیولپمنٹ، جاب کرینیشن اینڈ ٹریڈ کی جانب سے فنڈ یافتہ ہیں۔

سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام

BEC، صوبہ اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری میں، نئے یا موجودہ کاروباری خیالوں کے حامل لوگوں کی مدد کرنے کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام اہل شرکاء کو ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے، بڑھانے یا خریدنے کے لیے مفت تربیت، مفت مینٹورنگ اور \$5,000 تک کی گرانٹ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام مقامی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد رکھتا ہے اور جہاں موزوں ہو، مخصوص صنعتوں اور شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

برامپٹن میں سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے، آپ کو شرکت کے لیے اپنی اہلیت کی تصدیق کرنی ہو گی اور ایک لازمی معلومات نشست میں شرکت کرنی ہو گی۔ معلوماتی نشست میں شرکت پروگرام میں قبول یا پروگرام گرانٹ موصول ہونے کی ضمانت نہیں دیتی۔

دلچسپی رکھنے والے فریقین لازمی معلوماتی نشست کے لیے درج ذیل تاریخوں پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں:

- 18 فروری، صبح 10 تا 11 بجے
- 18 فروری، صبح 6 تا شام 7 بجے
- 23 فروری، صبح 10 تا 11 بجے
- 23 فروری، صبح 6 تا شام 7 بجے

پروگرام کے متعلق مزید جاننے اور اہلیت کا تعین کرنے کے لیے، www.brampton.ca/bec ملاحظہ کریں۔

سمر کمپنی پروگرام

حکومت اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری میں، BEC اونٹاریو کے 15 سے 29 سال کی عمر کے طلباء کو کاروبار شروع کرنے اور چلانے میں مدد دیتا ہے۔ پورے موسم گرما میں، طلباء تربیت میں حصہ لیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر عبور حاصل کرنے، مارکیٹنگ اور سیلز، کاروبار کے خطرے کو منظم کرنے اور نیٹ ورک جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔

درخواستوں کے لیے آخری تاریخ 19 اپریل 2021 ہے۔ خواہشمند نوجوان انٹرپرائیونرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست کے عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے BEC سے رابطہ کریں۔ یہ پروگرام مئی سے اگست 2021 تک ورجنل طور پر فراہم کیا جائے گا۔

دلچسپی رکھنے والے فریقین لازمی معلوماتی نشست کے لیے درج ذیل تاریخوں پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں:

- 25 مارچ، دن 3:30 تا 4:30

مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/bec پر جائیں۔

برامپٹن انٹرنیوٹنر سینٹر سٹی آف برامپٹن کے پلیننگ، بلڈنگ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ BEC تمام شعبہ جات میں مائیکرو اور چھوٹے کاروباروں کی محتاط تیاری، آغاز اور طویل مدت استحکامیت کو فروغ دے کر مقامی معیشت کے استحکام اور بڑھوتری پر مرکوز ہے۔

برامپٹن کی اکنامک ریکوری سٹریٹیجی کے بارے میں

مئی 2020 میں، برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹی کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر ایک اکنامک ریکوری سٹریٹیجی کو منظور کیا۔ اکنامک ریکوری سٹریٹیجی چار ستونوں میں منظم ہے: جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرنیوٹنر شپ، جس میں انٹرنیوٹنرز اور چھوٹے کاروباروں کی بہتر معاونت کے لیے برامپٹن انٹرنیوٹنر سنٹر کی پیشکشوں کو بڑھانا شامل ہے؛ سرمایہ کاری؛ فنون، ثقافت اور سیاحت؛ اور انفراسٹرکچر۔ مزید جاننے کے لیے، [یہاں کلک کریں](#)۔

اقتباسات

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور مقامی کاروبار ہماری زبردست کمیونٹی کی بہبود کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے رہائشیوں کے لیے ان دیکھی مشکل کے اس وقت میں، ہم اپنے موجودہ اور نئی ابھرتے ہوئے مقامی انٹرنیوٹنرز کے خوابوں کو بڑھانے کے لیے وقف ہیں۔ میں برامپٹن کے دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہمارے برامپٹن انٹرنیوٹنر سنٹر کی جانب سے پیشکش کیے جانے والے سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر کمپنی پروگرامز سے فائدہ اٹھائیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن انٹرنیوٹنر سنٹر ہمارے شہر میں تمام شعبہ جات کے مائیکرو اور چھوٹے کاروباروں کو بیش قیمتی خدمات اور پروگرام فراہم کرتا ہے۔ برامپٹن میں کاروبار شروع کرنے، بڑھانے یا خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام کے لیے ایک معلوماتی نشست میں حصہ لیں اور خواہشمند طالب علم انٹرنیوٹنرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سمر کمپنی پروگرام میں درخواست دیں، جو دونوں BEC کی جانب سے پیشکش کردہ ہیں۔ آپ ہمارے شہر کا مستقبل ہیں اور ہم آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارٹنر 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے مقامی کاروبار اور انٹرنیوٹنرز ہماری مقامی کمیونٹی کی مجموعی بہبود کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ہمارے شہر کی کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس اس عالمی وباء کے آغاز پر بنائی گئی تھی اور اس کے بعد سے اس نے اکنامک ریکوری سٹریٹیجی بنائی ہے، جو ہمارے انٹرنیوٹنرز اور کاروباروں کے لیے یہاں برامپٹن میں آغاز کرنے اور بڑھانے کے لیے زیادہ وسائل اور معاونت فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارٹنر 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ کونسل کے اس دور کی ترجیح برامپٹن مواقع کا شہر ہے کو آگے بڑھانے کے لیے وقف ہے اور ایسا کرنے کے ہمارے کئی طریقوں میں سے ایک ہمارے برامپٹن انٹرنیوٹنر سنٹر کی جانب سے پیشکش کردہ پروگرام ہیں۔ نوجوان اور انٹرنیوٹنرز ہماری مقامی معیشت کو بڑھانے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں آنے والے سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر کمپنی پروگرامز کے ذریعے ان کی مدد کرنے پر فخر ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca